



## سوال

(158) ایک شہر میں اپنا مکان کرایہ پر دیا ہے جب کہ دوسرے میں ---

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک شخص کا مکان ایک ایسے شہر میں ہے جہاں اس کی سکونت نہیں ہے لہذا اس نے اپنے مکان کو کرایہ پر دے رکھا ہے جب کہ جس شہر میں بسلسلہ ملازمت اس کی رہائش ہے وہاں اس نے کسی اور سے مکان کرایہ پر لے رکھا ہے جس کا کرایہ اپنے ذاتی مکان کے کرایہ سے کم ہے تو سوال یہ ہے کہ اس صورت میں اس کے ذاتی مکان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ  
الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ذاتی مکان اگر بیع کے لئے نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔۔۔۔۔ ہاں البتہ اس مکان کے کرایہ پر زکوٰۃ ہوگی جب کہ خرچ کرنے سے قبل اس پر ایک سال گزر جائے۔